



سوال

(162) جوتوں اور موزوں پر مسح کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جوتوں اور موزوں پر مسح کا کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جوتے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ جوتا اتار کر پاؤں دھونے جائیں۔ اور موزہ جو پاؤں کو ڈھانپتا ہے (اور پاؤں کا مخصوص لباس اور لٹافہ سا ہوتا ہے) اس پر مسح کرنا جائز ہے خواہ چمڑے کا ہو یا سوتلی یا اوننی وغیرہ، بشرطیکہ ایسی چیز سے بنا ہو جس کا پہننا حلال ہو۔ اگر وہ ایسا ہو جس کا پہننا حلال نہیں مثلاً مرد کے لیے ریشم کا، تو اس کے لیے ایسے موزوں پر مسح کرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ ان کا پہننا اس کے لیے ویسے ہی حرام ہے۔ اور اگر حلال ہو تو مسح کرنا بھی جائز ہوگا، بشرطیکہ با وضو ہو کر پہنا ہو، اور مشروع مدت کے دوران مسح کرے جو مقیم کے لیے ایک دن رات اور مسافر کے لیے تین دن رات ہے۔ اور اس کی ابتداء اس مسح سے ہوگی جب بے وضو ہونے کے بعد پہلی بار کرے۔ اور یہ مدت مقیم کے لیے چوبیس (24) گھنٹے بعد اور مسافر کے لیے بہتر (72) گھنٹے بعد ختم ہوگی۔

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 190

محدث فتویٰ